

کوئی بھی ایسا فرد جس کے پاس DOE کا مستعار دیا گیا آئی پیڈ ہے، ہمارے پاس آپ کے لیے اہم تازہ ترین خبریں ہیں۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ آپ کے بچے کا آئی پیڈ اسکول واپسی کے استعمال کے لیے تیار ہے آپ کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کو کرنا اہم ہے۔ اسکول کا پہلا دن صرف چند ہفتے ہی دور ہے، اور تمام طلبا ایک ہفتے میں کم سے کم کچھ دن ریموٹلی کام کریں گے۔ آپ کے بچے کو خزاں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کے تیار آئی پیڈ کی ضرورت ہو گی۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ جب ہمارے پاس تازہ ترین خبریں ہوں گی، ہم آپ کو اور آپ کے آئی پیڈ پر ہر جمعرات کو پیغامات بھیجیں گے، اور ہم آپ کے اسکول کو ان تازہ ترین خبروں سے مطلع کریں گے۔

تیار ہونے کے لیے، آپ کے لیے لازمی ہے کہ:

- **آئی پیڈ کو کھولیں** - کچھ آئی پیڈز کو پورے موسم گرما میں نہیں کھولا گیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں آپ آئی پیڈ کو چارج کریں اور اس توانا (پاور اپ) کریں۔
- انٹرنیٹ رابطے (کنیکشن) کو دوبارہ تشکیل (ریسیٹ) کرنے کے لیے ہوائی جہاز موڈ (Airplane Mode) کو کھولیں (آن کریں) اور بند (آف) کریں
 1. Settings پر جائیں
 2. Airplane Mode بٹن کو تلاش کریں
 3. دس سیکنڈ کے لیے Airplane Mode کو کھولیں (بٹن سبز رنگ کا ہو جائے گا)
 4. Airplane Mode کو بند (آف) کر دیں اور انتظار کریں جب تک کہ آئی پیڈ انٹرنیٹ کے رابطے میں آ جائے (کنیکٹ ہو جائے)
 5. آپ کو اسکرین کے بالائی حصے میں رابطے میں ہونے (کنیکٹڈ) کا آئیکان نظر آئے گا
 6. اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ آپ کا آئی پیڈ انٹرنیٹ سے رابطے میں (کنیکٹڈ) ہے schools.nyc.gov پر جائیں - DOE کے ذریعے مستعار دیئے گئے تمام آئی پیڈز کو انٹرنیٹ تک رسائی ہے۔
- **مرکزی اسکرین (مین اسکرین) پر جائیں اور Zscaler میں سائن ان کریں** تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ آپ کا بچہ DOE کے تمام تحفظاتی مطلوبات کے ساتھ انٹرنیٹ کو استعمال کر رہا ہے اور یہ محفوظ ہے۔ آپ کو آپ کے بچے کے [nycstudents.net account](https://nycstudents.net) کی ضرورت ہو گی۔ جب آپ یہ کر لیں براہ کرم ذیل ہدایات کی پابندی کریں:
 1. مرکزی (مین) اسکرین پر، Zscaler میں سائن ان کریں آئیکان پر کلک کریں۔ آئیکان پر کلک کرنے کے بعد، یہ آپ کو لاگ ان صفحے (پیج) پر لے جائے گا۔
 2. اپنے بچے کے [nycstudent account](https://nycstudent.net) کو داخل کریں (صرف طالب علم کے صارف نام (بوزر نیم) اور پاس ورڈ کو داخل کریں، لاگ ان کرنے کے لیے [nycstudents](https://nycstudents.net) شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے) اس کے بعد "sign in" بٹن پر کلک کریں۔
 3. "allow" کے بٹن پر کلک کریں اور رابطے (کنیکشن) کے بحال ہونے کے لیے ایک منٹ تک انتظار کریں جب تک آپ کو Zscaler اسکرین نظر آ جائے۔
 4. جب رابطہ (کنیکشن) محفوظ ہو جائے، ایپ کو بند کر دیں
 5. صرف اتنا ہی کرنا ہے۔ اب آپ آئی پیڈ کو معمول میں استعمال کر سکتے ہیں۔
- اسکول کے پہلے دن کے لیے تیار ہونے کے لیے، اپنے بچے (اور آپ کے لیے بھی) تعلیم اور معاونت مزید آسان تر بنانے کے لیے **Learn at Home App** میں سائن ان کریں اور یہ آپ کی آئی پیڈ پر اطلاعات موصول کرنے میں مدد کرے گا۔
 1. آئی پیڈ کی مرکزی (مین) اسکرین پر Learn at Home کے آئیکان کو تلاش کریں
 2. جس طرح آپ نے Zscaler میں سائن کیا تھا اسی طرح nycstudents.net کو استعمال کر کے لاگ ان کریں (صرف طالب علم کے صارف نام (بوزر نیم) اور پاس ورڈ کو داخل کریں، لاگ ان کرنے کے لیے [nycstudents](https://nycstudents.net) شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے)
 3. Learn at Home ایپ کے ذریعے آپ کے بچے کو TechHub, Google Classroom اور مدد حاصل کرنے (get help) تک رسائی حاصل ہو گی۔



Department of
Education

Chancellor Richard A. Carranza

خوش خبری!

آپ کے بچے کا آئی پیڈ اب ایک ہاٹ سپاٹ ہے جو آپ کو ریموٹ لرننگ کے لیے استعمال کیے جانے والے دیگر آلات کو انٹرنیٹ کے ساتھ جوڑنے (کنیکٹ کرنے) دیتا ہے۔ یہ آسان ہے:

- Settings پر جائیں
 - ذاتی ہاٹ اسپاٹ کو تلاش کریں اور لاگ ان اسکرین پر جانے کے لیے کلک کریں
 - دوسروں کو جوڑنے کی اجازت (Allow Others to Join) دیں کو منتخب کریں
 - آپ کے گھر میں دیگر طلبا ریموٹ لرننگ کے لیے جن آلات کو استعمال کر رہے ہیں ان کو جوڑنے (کنیکشن) کے لیے شامل کیا جا سکتا ہے
- یاد دہانی کے طور پر، آئی پیڈ کے لیے، ہاٹ اسپاٹ کنیکشن کو صرف ریموٹ لرننگ سرگرمیوں تک رسائی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی غیر منظور شدہ استعمال سختی سے منع ہے۔